

برامپٹن کے پروفیشنل فائر فائٹرز نے نئے فائر کیمپس میموریل کی تعمیر کے لیے 150,000 ڈالر کا عطیہ دیا ہے

فنی ماہرین کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ دوران ڈیوٹی فوت ہو جانے والے فائر فائٹرز کی ایک یادگار کی تعمیر کے لیے اپنے تصورات پیش کریں

برامپٹن، آن (2 ستمبر 2021) – آج برامپٹن پروفیشنل فائر فائٹرز، IAFF لوکل 1068 نے سٹی آف برامپٹن کو ایک نئی یادگار کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے 150,000 ڈالر کا چیک پیش کیا جو برامپٹن کے دوران ڈیوٹی فوت ہو جانے والے ایسے فائر فائٹرز کے اعزاز میں تعمیر کیا جائے گا جنہوں نے اپنے فرض کی بجا آوری کے دوران اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دی ہے۔ ایسوسی ایشن کے اراکین نے ان فنڈز میں حصہ ڈالنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس سے سٹی کی جانب سے پہلے سے فراہم کردہ 150,000 ڈالر کی رقم میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس طرح فن کے اس شاندار شاہکار کے لیے مجموعی طور پر 300,000 ڈالر جمع ہو گئے ہیں۔

یہ یادگار نمونہ ولیمز پارک وے پر موجود نئے فائر ہیڈ کوارٹر ز اینڈ ٹریننگ سنٹر میں بنایا جائے گا جو متوقع طور پر 2023 کے موسم بہار میں پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس جدید ترین اور مرکزی سہولت گاہ کو برامپٹن کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہیڈ کوارٹرز، پریوینشن ڈویژن، نئے فائر اسٹیشن 203، ایمرجنسی آپریشنز سنٹر، ایمرجنسی مژرز آفس اور انڈور اور آؤٹ ڈور فائر ٹریننگ سہولیات کے لیے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گی۔

فنکاروں کو دعوت

سٹی آف برامپٹن پیشہ ور فنکاروں اور فنکاروں کی قیادت میں چلنے والی ٹیموں کو برامپٹن میں ایک نئے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز میموریل کی تعمیر میں دلچسپی کا اظہار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے فنکاروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کینیڈا میں رہائش پذیر ہوں اور انہیں کینیڈا میں قانونی طور پر کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔

- دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے فنکاروں کو دی جانے والی یہ دعوت دو مراحل پر مشتمل ایک مسابقتی عمل کا پہلا مرحلہ ہے۔
- پہلا مرحلہ: پروجیکٹ کے منتخب شدہ اسٹیک ہولڈرز کے ایک پینل کی جانب سے دلچسپی کے اظہار کا جائزہ۔
- دوسرا مرحلہ: منتخب شدہ اہل فنکاروں کو دعوت دی جائے گی کہ وہ ڈیزائن کی ایک تجویز جمع کرائیں۔ اس مرحلے پر کامیاب فنکاروں کو منتخب کر لیا جائے گا۔

پہلے مرحلے کے دوران دلچسپی کا اظہار جمع کرانے کے لیے 2 ستمبر تا 14 اکتوبر 2021 تک دن 2 بجے تک کا وقت مختص کیا گیا ہے۔ مزید معلومات اور کال ٹو آرٹسٹ دستاویز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے brampton.ca/publicart ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"ہم اپنے شراکت داروں IAFF لوکل 1068 کی جانب سے اس فراخ دلانہ عطیہ کے لیے تہ دل سے مشکور ہیں۔ یہ یادگار ان تمام لوگوں کی بیش بہا خدمات کا اعتراف کرے گی جنہوں نے انتہائی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں ہماری فائر ٹیم کی جانب سے ہماری کمیونٹی کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی روزانہ کی بنیاد پر یاد دہانی کرائے گی۔ مجھے اپنے فنکاروں کو دعوت دیتے ہوئے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے لیے ہماری یہ اہم یادگار تخلیق کرنے میں حصہ لیں۔ یہ درحقیقت زندگی بھر میں ایک بار آنے والا ایک ایسی ٹیم کو پہچاننے کا موقع ہے جو ہمارے شہر میں انمول کردار ادا کرتی ہے۔"

– پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کو ایک صحت مندانہ اور محفوظ کمیونٹی بنانے میں برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس فنکارانہ یادگار کی تعمیر سے اس نئے کیمپس کی اہمیت کو ایک بامقصد طریقے سے اجاگر کیا جا سکے گا اور یہ ہماری ٹیم کے

ممبران کی مجموعی خیر و عافیت میں ایک اہم کردار ادا کرے گی جو ہر روز ہماری کمیونٹی کے لیے انتہائی اہم اور پرخلوص کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔"

– رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"اس یادگار کی تعمیر کے عمل میں شراکت داری اور باہمی طور پر مربوط ہونے میں شاندار پیش رفت جاری ہے، جو ہماری ٹیم اور ہماری کمیونٹی کے لئے بہت معنی خیز ہے۔ سٹی آف برامپٹن کی جانب سے میں IAFF لوکل 1068 میں اپنے شراکت داروں کا اس عظیم شاہکار سے وابستگی رکھنے پر دلی طور پر شکر یہ ادا کرتا ہوں۔ میں مقامی فنکاروں کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ بھی اس عظیم کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں حصہ لینے کے لیے درخواست دیں جو ہمارے ملازمین اور رہائشیوں اور فائر فائٹنگ کمیونٹی کے لیے درحقیقت بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔"

– ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"ہماری ٹیم کے اراکین نہ صرف رفقائے کار ہیں بلکہ وہ ایک خاندان کی مانند ہیں۔ یہ شاندار یادگار برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی پوری ٹیم کے لیے بہت معنی رکھتی ہے جس سے ہمیں اپنے دوران ڈیوٹی فوٹ ہو جانے والے اراکین کی زندگیوں اور ان کے شاندار کارناموں کا جشن منانے کا موقع میسر آئے گا۔ یہ یادگاری مقام ہمارے نئے ولیمز پارک وے فائر کیمپس کو واقعی ایک خاص جگہ بنا دے گا۔"

– چیف بل بوائز، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

"میں اپنے ان اراکین پر فخر محسوس کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم ترغیب کی معاونت میں ووٹ دیا ہے۔ یہ یادگار ہم سب کے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور ہمارے لیے ان لوگوں کی خدمات کا اعتراف کرنا ضروری ہے جنہوں نے ہماری کمیونٹی کی حفاظت کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں تاکہ ہمارے اور ان کے خاندان ان کی یادیں اپنے دلوں میں زندہ رکھیں۔"

– پال لی کومپٹے، صدر، برامپٹن پروفیشنل فائر فائٹرز، IAFF لوکل 1068

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ۔

ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہو جائیں اور www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پرابجوت کینتھ
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca